

2nd India-Australia-Japan- USA Ministerial Meeting

October 06, 2020

ہندوستان- آسٹریلیا- جاپان- امریکہ کے مابین دوسری وزارتی میٹنگ

06 اکتوبر، 2020

وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے 6 اکتوبر 2020 کو ٹوکیو میں ہونے والی دوسری بھارت- آسٹریلیا- جاپان- امریکہ کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ وزرائے خارجہ نے ستمبر 2019 میں ہونے والی اپنی بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور کووڈ 19 کے بعد کے بین الاقوامی آرڈر پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے وبائی مرض سے پیدا ہونے والے مالی مسائل سمیت چیلنجوں کا مربوط جواب دینے کا مطالبہ کیا، اور کووڈ 19 کا مقابلہ کرنے کے لئے بہترین طریقوں کو شیئر کرنے کی ضرورت پر زور دیا، اور سپلائی چین کی لچک میں اضافہ کرنے؛ اور سستی ویکسین، دواؤں اور طبی سامان تک رسائی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔

وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے علاقائی امور، اور کنکٹوٹی، انسانی امداد اور تباہی سے متعلق امداد، سمندری حفاظت اور امن؛ صحت کی سلامتی، اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنے جیسے امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آزاد، کھلی اور جامع انڈو پیسیفک کو برقرار رکھنے کے اپنے اجتماعی وژن کی تاکید کی۔ انہوں نے آسیان مرکزیت کے لئے اپنی بھر پور حمایت کا اعادہ کیا اور انڈو پیسیفک کے لئے مشترکہ وژن حاصل کرنے کے لئے کام کرنے کی تیاری پر روشنی ڈالی۔ ان باہمی مشوروں کی قدر کی تعریف کرتے ہوئے، انہوں نے باقاعدگی سے ان کے انعقاد پر اتفاق کیا۔

بھارتی وزیر خارجہ نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ عالی جناب مائیکل پومپیو سے دوطرفہ ملاقات بھی کی، اور وہ آسٹریلیائی وزیر خارجہ عزت مآب ماریس پین اور جاپان کے وزیر خارجہ عالی جناب توشی متسو موتیگی سے ملاقات کریں گے۔ ان ملاقاتوں سے متعلقہ وزراء کو جاری دوطرفہ تعاون کا جائزہ لینے اور علاقائی، عالمی اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا۔

نئی دہلی

06 اکتوبر، 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release